



سوال

(349) نماز میں نظر کہاں ہو

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

نماز پڑھتے وقت اپنی نظریں کہاں رکھنی چاہئیں، خاص کر رکوع میں کہاں دیکھنا چاہیے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز میں کسی خاص جگہ پر نظر رکھنے کے حوالے سے کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نماز میں نظر کو آوارہ گردی نہیں کرنی چاہئے۔ بلاوجہ ادھر ادھر یا آسمان کی طرف دیکھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔

اہل علم کے ہاں نظر کے مقام کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ نمازی کو اعتدال کے ساتھ اپنے سامنے دیکھنا چاہئے، نہ تو بالکل سر جھکائے اور نہ ہی اوپر اٹھائے۔ انہوں نے آیت مبارکہ **قَوْلٍ وَجَنَّتْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْبَقَرَةَ: 144**

آپ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیں۔

سے استدلال کیا ہے۔

جبکہ جمہور اہل علم کے نزدیک سجدے کی جگہ نظر رکھنا مستحب ہے۔ ابن سیرین سے مروی ہے کہ نبی کریم پہلے نماز میں آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، جب یہ آیت مبارکہ **الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون: 2**

نازل ہوئی تو آپ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ [رواہ البیہقی وسعید بن منصور]

اسی طرح تشہد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نظر انگلی کے اشارے پر ہوتی تھی۔

حداماً عنذی واللہ اعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ](#)

جلد 2